

Num

Chapter 23

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וַיֹּאמֶר	בְּלִעַם	אֶל-	בְּלֶק	בְּנֵה-	לִי	בָּוֶה	שִׁבְעָה	מִזְבְּחֹת	וְהִקֵּן	לִי
	اور-کہا	بلعام	سے-	بلق	بنا-	میرے-لیے	یہاں	سات	قربان-گاہیں	اور-تیار-کر	میرے-لیے
	H0559	H0413		H1111	H1129		H2088	H7651	H4196		
	בָּוֶה	שִׁבְעָה	פָּרִים	וְשִׁבְעָה	אֵילִים:						
	یہاں	سات	بیل	اور-سات	مینڈھے						
	H2088	H7651	H6499	H7651							

رکھیں۔ کر تیار مینڈھے سات اور بیل سات لئے میرے ساتھ ساتھ بنائیں۔ گاہیں قربان سات لئے میرے یہاں کہا، نے بلعام

2	וַיַּעַשׂ	בְּלֶק	כַּאֲשֶׁר	דִּבֶּר	בְּלִעַם	וַיַּעַל	בְּלֶק	וּבְלִעַם	פָּר	וְאֵיל	בְּמִזְבְּחֹת:
	اور-کیا	بلق	جیسا	بول	بلعام	اور-چڑھایا	بلق	اور-بلعام	بیل	اور-مینڈھا	قربان-گاہ-پر
	H1111	H1696				H5927	H1111		H6499	H4196	

چڑھایا۔ مینڈھا ایک اور بیل ایک پر گاہ قربان ہر کر مل نے دونوں اور کہا، ہی ایسا نے بلق

3	וַיֹּאמֶר	בְּלִעַם	לְבֶלֶק	הַתַּיִבִּי	עַל-	עֲלֹתָו	וְאֶלְזָה	אוּלִי	יִקְרָה	יְהוָה
	اور-کہا	بلعام	بلق-سے	کھڑا-رہ	پاس-	اپنی-سوختنی-قربانی	اور-جاؤں	شاید	ملے	یہوواہ
	H0559	H1111	H3320				H3212	H0194	H3068	

لְקִרְאָתִי	וְדִבֶּר	מֵה-	יִרְאֵנִי	וְהִנְדִּיתִי	לָו	וַיִּקְלָד	שִׁפִּי:
ملنے-کو-میرے	اور-بات	جو-	دکھائے-مجھے	اور-بتاؤں-گا	تجھے	اور-گیا	ٹیلے-پر
H7125	H1697	H4100	H7200	H5046	H3212	H8205	

ظاہر پر مجھ وہ کچھ جو آئے۔ ملنے سے مجھ رب شاید ہوں، جاتا پر فاصلے کچھ میں رہیں۔ کھڑے پاس کے قربانی اپنی یہاں کہا، سے بلق نے بلعام پھر تھا۔ محروم بالکل سے بریالی جو گیا چلا پر مقام اونچے ایک وہ کر کہہ یہ گا۔ دوں بتا کو آپ میں کرے

4	וַיִּקְרָ	אֱלֹהִים	אֶל-	בְּלִעַם	וַיֹּאמֶר	אֵלָיו	אֶת-	שִׁבְעַת	הַמִּזְבְּחוֹת	עֲלֹתָיו
	اور-ملا	خدا	سے-	بلعام	اور-کہا	اُسے	کو-	سات	قربان-گاہیں	تیار-کیا-میں-نے
	H0430	H0413		H0559	H0413	H0853	H7651	H4196		

וְאֵעַל	פָּר	וְאֵיל	בְּמִזְבְּחֹת:
اور-چڑھایا-میں-نے	بیل	اور-مینڈھا	قربان-گاہ-پر
H5927	H6499	H4196	

ہے۔ کیا قربان مینڈھا ایک اور بیل ایک پر گاہ قربان ہر کے کر تیار گاہیں قربان سات نے میں کہا، نے بلعام ملا۔ سے بلعام اللہ وہاں

5	וַיִּשָּׂם	יְהוָה	דִּבֶּר	בְּפִי	בְּלִעַם	וַיֹּאמֶר	שׁוּב	אֶל-	בְּלֶק	וְזָה	תִּדְבֶּר:
اور-رکھا	یہوواہ	بات	منہ-میں	بلعام	اور-کہا	لوٹ	پاس-	بلق	اور-یوں	بول	
H3068	H1697	H6310	H0559	H7725	H0413	H4196					

سنا۔ پیغام یہ اُسے اور جا واپس پاس کے بلق کہا، اور دیا پیغام لئے کے بلق اُسے نے رب تب

6	וַיִּשָּׂב	אֵלָיו	וְהִנֵּה	נֶצַב	עַל-	עֲלֹתָו	הוּא	וְכָל-	שָׂרֵי	מוֹאָב:
اور-لوٹا	اُس-کے-پاس	اور-دیکھو	کھڑا-تھا	پاس-	اپنی-سوختنی-قربانی	وہ	اور-سارے-	سردار	موآب	
H7725	H0413	H2009	H5324			H1931	H3605	H8269	H4124	

تھا۔ کھڑا پاس کے قربانی اپنی ساتھ کے سرداروں موآبی تک اب جو آیا واپس پاس کے بلق بلعام

7	וַיִּשָּׂא	מִשְׁלוֹ	וַיֹּאמֶר	מִן־	אַרְם	יְנֻחֵי	בְלֹק	מִלֶּךְ־	מוֹאָב	מִהָרְרֵי־	קָרְם
	اور-اٹھایا	اپنی-مثال	اور-کہا	سے-	ارام	بلایا-مجھے	بلق	بادشاہ-	موآب	پہاڑوں-سے-	مشرق
	H5375	H4912	H0559		H0758	H5148	H1111	H4428	H4124	H2042	

לְכֶה אֶרְהֶה- לַי יַעֲקֹב וְלֶכְהָ זַעֲמָה יִשְׂרָאֵל:
 آ لعنت-کر- میرے-لیے یعقوب اور-آ لعنت-کر اسرائیل
[H3212](#) [H0779](#) [H3290](#) [H3212](#) [H2194](#) [H3478](#)

اسرائیل آؤ، بھیجو۔ لعنت لئے میرے پر یعقوب آؤ، کہا، کر بلا سے پہاڑوں مشرقی مجھے نے بادشاہ موآبی ہے، لایا یہاں سے آرام مجھے بلق اٹھا، بول بلعام دو۔ بددعا کو

8	מָה	אֶקְבֹּ	לֹא	קָבַח	אֵל	וּמָה	אֲזַעֵם	לֹא	זַעַם	יְהוָה:
	کیسے	لعنت-کروں	نہ	لعنت-کی	خدا-نے	اور-کیسے	غضب-کروں	نہ	غضب-کیا	یہوواہ-نے
	H4100	H3808	H3808	H6895	H0410	H4100	H2194	H3808	H2194	H3068

دی؟ نہیں بددعا نے رب جنہیں دوں بددعا انہیں طرح کس میں بھیجی؟ نہیں لعنت نے اللہ پر جن بھیجوں لعنت پر ان طرح کس میں

9	כִּי-	מֵרֵאשׁ	צָרִים	אֲרָאֲנוּ	וּמִנְבָּעוֹת	אֲשׁוּרָנִי	הָן-	עַם	לְבָדָד
	کیونکہ-	چوٹی-سے	چٹانوں	دیکھتا-ہوں-اُسے	اور-پہاڑیوں-سے	دیکھتا-ہوں-اُسے	دیکھو-	قوم	اکیلی
		H6697	H6697	H7200	H1389	H7789	H2005		H0910

יִשְׁכֹּן וּבְנוֹיָם לֹא יִתְחַשְׁבּוּ:
 بستی-ہے اور-قوموں-میں نہ شمار-بوتی
[H7931](#) [H3808](#) [H2803](#)

آپ اپنے یہ ہے۔ رہتی الگ سے دوسروں جو ہے قوم ایسی ایک یہ واقعی ہوں۔ کرتا مشاہدہ کا اُن سے پہاڑیوں ہوں، دیکھتا سے چوٹی کی چٹانوں انہیں میں ہے۔ سمجھتی ممتاز سے قوموں دوسری کو

10	מִי	מִנְהָ	עָפָר	יַעֲקֹב	וּמִסְפָּר	אֶת-	רִבְעֵ	יִשְׂרָאֵל	תְּמֹת	נַפְשֵׁי	מֹות	יִשְׂרָיִם
	کون	گئے	خاک	یعقوب	اور-شمار	کو-	چوتھائی	اسرائیل	مرے	میری-جان	موت	راستوں
	H4310	H4487	H6083	H3290	H4557	H0853	H7255	H3478	H4191	H5315	H4194	H3477

וַתְּהִי וְהָיָה אֲחֵרֵיתִי כְמוֹהוּ:
 اور-ہو میرا-انجام اُس-کی-طرح
[H1961](#) [H0319](#) [H3644](#)

کی بازوں راست میں کہ کرے رب ہے؟ سکتا گن بھی حصہ چوتھا کا اسرائیلیوں کون ہے۔ ہے شمار مانند کی گرد جو ہے سکتا گن کو اولاد کی یعقوب کون ہو۔ اچھا جیسا انجام کے اُن انجام میرا کہ مروں، موت

11	וַיֹּאמֶר	בְּלֹק	אֵל-	בְּלַעַם	מָה	עָשִׂיתָ	לִי	לְקַב	אֵיבִי	לְקַחְתִּיךָ
	اور-کہا	بلق	سے-	بلعام	کیا	کیا-ٹو-نے	مجھ-سے	لعنت-کرنے	میرے-دشمنوں	لایا-میں-نے-تجھے
	H0559	H1111	H0413	H4100				H6895	H0341	H3947

וַהֲנֵה בְרַכְתָּ בְרַךְ:
 اور-دیکھو برکت-دی-ٹو-نے برکت-دینا
[H2009](#) [H1288](#) [H1288](#)

ہے۔ دی برکت خاصی اچھی انہیں نے آپ اور لایا لئے کے بھیجنے لعنت پر دشمنوں اپنے کو آپ میں ہے؟ کیا کیا ساتھ میرے نے آپ کہا، سے بلعام نے بلق

12	וַיַּעַן	וַיֹּאמֶר	הֲלֹא	אֵת	אֲשֶׁר	יְשִׁים	יְהוָה	בְּפִי	אֶתוֹ	אֲשַׁמֵּר
	اور-جواب-دیا	اور-کہا	کیا-نہ	کو	جو-	رکھتا-ہے	یہوواہ	میرے-منہ-میں	وہی	رکھتا-ہوں-میں
	H0559	H3808	H0853			H3068	H0853	H6310	H0853	H8104

لְדַבֵּר:
 بولنا
[H1696](#)

ہے؟ کہا کو بتانے نے رب جو بولوں کچھ وہی میں کہ نہیں لازم کیا دیا، جواب نے بلعام

13	וַיֹּאמֶר	אֵלָיו	בְּלֶקְחָם	לְדָרְךָ	(לְקַחְהָ) -	זָא	אֲרִי	אֶל-	מְקוֹם	אֲחֵר	אֲשֶׁר
	اور-کہا	اُسے	بلق	آ-	آ-	نرا	میرے-ساتھ	کی-طرف-	جگہ	دوسری	جہاں-سے
	H0559	H0413	H1111	H3212	H3212	H4994	H0854	H0413	H4725	H0312	

	תְּרַאמוּ	מִשָּׁם	אָפֶס	קִצְרוֹ	תְּרַאדָה	וּכְלוֹ	לָא	תְּרַאדָה	וּקְבֻנוֹ-
	دیکھے-گا-ٹو-اُسے	وہاں-سے	صرف	اُس-کا-کنارہ	دیکھے-گا-ٹو	اور-سارا	نہ	دیکھے-گا-ٹو	اور-لعنت-کر-
	H7200	H8033		H4994	H7200	H3605	H3808	H7200	H6895

לִי מִשָּׁם:
میرے-لیے وہاں-سے
H8033

گا۔ آئے نظر ہی کنارہ صرف کا گاہ خیمہ کی اُن گو گے، سکیں دیکھ کو قوم اسرائیلی آپ سے جہاں جائیں جگہ اور ایک ہم آئیں، کہا، سے اُس نے بلق پھر بھیجیں۔ لعنت لئے میرے پر اُن سے وہیں گے۔ سکیں دیکھ نہیں کو سب آپ

14	וַיִּקְחֵהוּ	שָׂדֵה	צִפִּים	אֶל-	רֹאשׁ	הַפְּסָנָה	וַיִּבְנוּ	שִׁבְעָה	מִזְבְּחֹת	וַיַּעַל
	اور-لے-گیا-اُسے	میدان	صوفیم	کی-طرف-	چوٹی	پسگہ	اور-بنایا	سات	قربان-گاہیں	اور-چڑھایا
	H3947		H6839	H0413		H6449	H1129	H7651	H4196	H5927

פָּר וְאֵיל בְּמִזְבְּחֵי:
بیل اور-مینڈھا قربان-گاہ-پر
H6499 H4196

بیل ایک پر ایک ہر کر بنا گاہیں قربان سات نے اُس بھی وہاں گیا۔ پہنچ تک میدان کے داروں پہرے کر چڑھ پر چوٹی کی پسگہ ساتھ کے اُس وہ کر کہ۔ یہ کیا۔ قربان مینڈھا ایک اور

15	וַיֹּאמֶר	אֶל-	בְּלֶקְחָם	הַתִּינֹב	כָּה	עַל-	עֲלֹתָךְ	וְאֲנֹכִי	אֲקָרָה	כָּה:
	اور-کہا	-سے	بلق	کھڑا-رہ	یہاں	پاس-	اپنی-سوختنی-قربانی	اور-میں	ملوں-گا	یہاں
	H0559	H0413	H1111	H3320	H3541			H0595		H3541

گا۔ ملوں سے رب کر جا پر فاصلے کچھ میں رہیں۔ کھڑے پاس کے گاہ قربان اپنی یہاں کہا، سے بلق نے بلعام

16	וַיִּקְרַ	יְהוּוָה	אֶל-	בְּלֶעָם	וַיִּשָּׂם	דְּבַר	בְּפִיו	וַיֹּאמֶר	שׁוּב	אֶל-	בְּלֶקְחָם	וְכָה
	اور-ملا	یہوواہ	-سے	بلعام	اور-رکھا	بات	اُس-کے-منہ-میں	اور-کہا	لوٹ	پاس-	بلق	اور-یوں
	H3068		H0413		H1697		H6310	H0559	H7725	H0413	H1111	H3541

תְּדַבֵּר:
بول
H1696

دے۔ سنا پیغام یہ اُسے اور جا واپس پاس کے بلق کہا، اور دیا پیغام لئے کے بلق اُسے نے اُس ملا۔ سے بلعام رب

17	וַיִּבֵּא	אֵלָיו	וְהִנּוּ	נֹצֵב	עַל-	עֲלֹתָו	וְשָׂרִי	מִזְבֵּאב	אֲתוֹ	וַיֹּאמֶר
	اور-آیا	اُس-کے-پاس	اور-دیکھو	کھڑا-تھا	پاس-	اپنی-سوختنی-قربانی	اور-سردار	مواَب	اُس-کے-ساتھ	اور-کہا
	H0935	H0413	H2009	H5324			H8269	H4124	H0854	H0559

לֹא בְּלֶקְחָם מִדֵּה-
اُسے بلق کیا-
H1111 H4100 H1696 H3068

کہا؟ کیا نے رب پوچھا، سے اُس نے اُس تھا۔ کھڑا پاس کے قربانی اپنی ساتھ کے سرداروں اپنے تک اب بلق گیا۔ چلا واپس وہ

18	וַיִּשָּׂא	מִשְׁלוֹ	וַיֹּאמֶר	קוֹם	בְּלֶקְחָם	וַיִּשְׁמָע	הָאֲזִינָה	עָרִי	בְּנוֹ	צִפּוֹר:
	اور-اُٹھایا	اپنی-مثال	اور-کہا	اُٹھ	بلق	اور-سُن	کان-لگا	میری-طرف	بیٹے	صفور
	H5375	H4912	H0559		H1111	H8085	H0238	H5704		H6834

کرو۔ غور پر بات میری بیٹے، کے صفور اے سنو۔ اور اُٹھو بلق، اے کہا، نے بلعام

19	לָא	אִישׁ	אֱלֹ	וַיִּכְבֹּד	וַיִּבְנֶה	אָדָם	וַיִּתְנַחֵם	הַהוּא	אָמַר	וְלֹא	יַעֲשֶׂה
	نہ	آدمی	خدا	اور-جھوٹ-بولے	اور-نہ-بنی-	آدم	اور-پچھتائے	کیا-وہ	کہا	اور-نہ	کرے-گا
	H3808	H0376	H0410	H3576		H0120	H5162	H1931	H0559	H3808	

וְדָבַר וְלֹא
اور-بولا اور-نہ
[H1696](#) [H3808](#)

יְקִימֶנָה:
پورا-کرے-گا-اُسے

اپنی کہی وہ کیا کرتا؟ نہیں عمل پر بات اپنی کہی وہ کیا پچھتائے۔ میں بعد کے کر فیصلہ کوئی جو نہیں انسان وہ ہے۔ بولتا جھوٹ جو نہیں آدمی اللہ کرتا؟ نہیں پوری بات

20	הִנֵּה	בָּרַךְ	לְקַחְתִּי	וַיִּבְרַךְ	וְלֹא	אֲשִׁיבֶנָה:
	دیکھو	برکت-دینا	لیا-میں-نے	اور-برکت-دی	اور-نہ	لوٹاؤں-گا-اُسے
	H2009	H1288	H3947	H1288	H3808	H7725

سکتا۔ نہیں روک برکت یہ میں اور ہے دی برکت نے اُس ہے۔ گیا کہا کو دینے برکت مجھے

21	לֹא	הַבֵּישׁ	אֶנּוֹן	בְּיַעֲקֹב	וְלֹא	רָאָה	עָמְלָ	בְּיִשְׂרָאֵל	יְהוָה	אֱלֹהֵיוֹ	בְּזִמּוֹ
	نہ	دیکھا	بدی	یعقوب-میں	اور-نہ	دیکھا	مشقت	اسرائیل-میں	یہوواہ	اُس-کا-خدا	اُس-کے-ساتھ
	H3808	H5027	H0205	H3290	H3808	H7200	H5999	H3478	H3068	H0430	

וַתְּרוֹעֵת מֶלֶךְ
اور-للکار بادشاہ
اُس-میں
[H8643](#) [H4428](#)

نعرے میں خوشی کی بادشاہ قوم اور ہے، ساتھ کے اُس خدا کا اُس رب دیتا۔ نہیں دکھائی دکھ میں اسرائیل آتی، نہیں نظر خرابی میں گھرانے کے یعقوب ہے۔ لگاتی

22	אֱלֹ	מוֹצִיאֵם	מִמִּצְרַיִם	כְּתוּעַת	רָאִים	לֹא:
	خدا	نکالنے-والا-انہیں	مصر-سے	سینگوں-کی-طرح	جنگلی-بیل	اُسے
	H0410	H3318	H4714	H8443	H7214	

ہے۔ حاصل طاقت کی بیل جنگلی انہیں اور لایا، نکال سے مصر انہیں اللہ

23	כִּי	לֹא	נֶחֱשׁ	בְּיַעֲקֹב	וְלֹא	קָסָם	בְּיִשְׂרָאֵל	כָּתִית	יֵאמֶר	לְיַעֲקֹב
	کیونکہ	نہ	جادو	یعقوب-میں	اور-نہ	فال	اسرائیل-میں	وقت-پر	کہا-جائے-گا	یعقوب-سے
	H3808	H5173	H3290	H3808	H7081	H3478	H6256	H0559	H3290	

וְלִישְׂרָאֵל מָה- פָּעַל אֱלֹ:
اور-اسرائیل-سے کیا- کیا خدا
[H3478](#) [H4100](#) [H6466](#) [H0410](#)

کیا کام کیسا نے اللہ گا، جائے کہا سے گھرانے کے یعقوب اب ہے۔ بے فائدہ دانی غیب خلاف کے اسرائیل ہے، ناکام جادوگری خلاف کے گھرانے کے یعقوب ہے۔

24	הָיָה	עָם	כְּלָבִיא	יָקוּם	וְכֹאֲרִי	יִתְנַשֵּׂא	לֹא	יִשְׁכַּב	עַד-	יֹאכֵל	פָּרַךְ
	دیکھو-	قوم	شیرنی-کی-طرح	اُٹھتی-ہے	اور-شیر-کی-طرح	اُٹھتا-ہے	نہ	لیٹتا-ہے	تک-	کھائے	شکار
	H2005					H5375	H3808	H7901	H5704	H0398	H2964

וְדָם- חָלָלִים יִשְׁתָּה:
اور-خون- مارے-گنوں بیٹے
[H1818](#) [H8354](#)

بوئے مارے وہ تک جب کرتا، نہیں آرام وہ لے کہا نہ شکار اپنا وہ تک جب ہے۔ جاتی بو کھڑی طرح کی شیربر اور اُٹھتی طرح کی شیرنی قوم اسرائیلی لیٹتا۔ نہیں وہ لے پی نہ خون کا لوگوں

25	וַיֹּאמֶר	בָּלֶעַם	אֵל-	בָּלֶעַם	גַּם-	קָב	לֹא	תִּקְבְּנוּ	גַּם-	בָּרַךְ	לֹא
	اور-کہا	بلق	بلعام سے-	بلعام	بھی-	لعنت-کرنا	نہ	لعنت-کر-اُسے	بھی-	برکت-دینا	نہ
	H0559	H1111	H0413		H1571	H6895	H3808		H1571	H1288	H3808

تִּבְרַכְנוּ:
برکت-دے-اُسے
[H1288](#)

دیں۔ نہ تو برکت انہیں کم از کم کریں، انکار سے بھیجنے لعنت پر اُن آپ [] اگر کہا، نے بلق کر سن یہ

26	וַיַּעַן	בָּלֶעַם	וַיֹּאמֶר	אֵל-	בָּלֶעַם	הֲלֹא	דִּבַּרְתִּי	אֵלֶיךָ	לֹא	כָּל	אֲשֶׁר-
	اور-جواب-دیا	بلعام	اور-کہا	سے-	بلق	کیا-نہ	کہا-میں-نے	تجھ-سے	کہتے-ہوئے	سب	جو-
	H0559	H1111	H0413	H0413	H1111	H3808	H1696	H0413	H0559	H3605	

וַדַּבֵּר
بولے-گا
[H1696](#)

וַיְהוֹוֶה
یہوواہ
[H3068](#)

אֶתְּוִי
وہی
[H0853](#)

אֶעֱשֶׂה:
کروں-گا

گا؟ [] کروں وہی میں گا کہے رب بھی کچھ جو کہ تھا بتایا نہیں کو آپ نے میں [] کیا دیا، جواب نے بلعام

27	וַיֹּאמֶר	בָּלֶעַם	אֵל-	בָּלֶעַם	לְכֹה-	נָא	אֶקְחֶךָ	אֵל-	מִקּוֹם	אַחַר	אוֹלָי	יִישָׁר
	اور-کہا	بلق	سے-	بلعام	آ-	ذرا	لے-جاؤں-تجھے	کی-طرف-	جگہ	دوسری	شاید	بھلی-لگے
	H0559	H1111	H0413		H3212	H4994	H3947	H0413	H4725	H0312	H0194	H3474

בְּעֵינַי
آنکھوں-میں

הָאֱלֹהִים
خدا

וְקָבַחוּ
اور-لعنت-کرے-گا-اُسے

לִי
میرے-لیے

מִשָּׁם:
وہاں-سے

بھیجیں۔ [] لعنت پر اُن سے وہاں لئے میرے آپ کہ جائے ہو راضی اللہ شاید جاؤں۔ لے جگہ اور ایک کو آپ میں [] انہیں، کہا، سے بلعام نے بلق تب

28	וַיִּקַּח	בָּלֶעַם	אֶת-	בָּלֶעַם	רֹאשׁ	הַפְּעוּר	הַנְּשָׁקָף	עַל-	פָּנָי	הַיְשִׁימוֹן:
	اور-لے-گیا	بلق	کو-	بلعام	چوٹی	فعور	نظر-آنے-والی	پر-	سامنے	یشیمون
	H3947	H1111	H0853		H6465	H4725	H8259	H6440	H3452	

دیا۔ دکھائی یشیمون حصہ جنوبی کا وادی کی یردن سے چوٹی کی اُس گیا۔ چڑھ پر پہاڑ فعور ساتھ کے اُس وہ

29	וַיֹּאמֶר	בָּלֶעַם	אֵל-	בָּלֶעַם	בְּנֵה-	לִי	בְּנֵה	שַׁבְּעָה	מִזְבְּחֹת	וְהִקֵּן	לִי
	اور-کہا	بلعام	سے-	بلق	بنا-	میرے-لیے	یہاں	سات	قربان-گاہیں	اور-تیار-کر	میرے-لیے
	H0559	H1111	H0413		H1129	H2088	H7651	H4196			

בְּנֵה
یہاں

שַׁבְּעָה
سات

פָּרִים
بیل

וְשַׁבְּעָה
اور-سات

אֵילִים:
مینڈھے

رکھیں۔ [] کر تیار مینڈھے سات اور بیل سات کر بنا گاہیں قربان سات یہاں لئے [] میرے کہا، سے اُس نے بلعام

30	וַיַּעַשׂ	בָּלֶעַם	כְּאֲשֶׁר	אָמַר	בָּלֶעַם	וַיַּעַל	פָּר	וְאֵיל	בְּמִזְבְּחֹת:
	اور-کیا	بلق	جیسا	کہا	بلعام	اور-چڑھایا	بیل	اور-مینڈھا	قربان-گاہ-پر
	H1111		H0559		H5927	H6499		H4196	

کیا۔ قربان مینڈھا ایک اور بیل ایک پر گاہ قربان ایک ہر نے اُس کیا۔ ہی ایسا نے بلق